



قومی ٹی ٹونٹی ٹیم میں واپسی پر محمد حفیظ اور شعیب ملک کے درمیان مکالمہ

- سلیکشن کا معیار عمر نہیں بلکہ کارکردگی ہے، محمد حفیظ
- بطور مڈل آرڈر بیٹسمین، کپتان بابر اعظم سے بیٹنگ کا پریشر کم کرنا اصل ہدف ہے، شعیب ملک

لاہور، 22 جنوری 2020ء:

بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے تجربہ کار محمد حفیظ اور شعیب ملک کو قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ 39 سالہ محمد حفیظ اور 37 سالہ شعیب ملک مجموعی طور پر 200 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ کے تربیتی کیمپ کے دوران دونوں سینئر کرکٹرز کے درمیان خصوصی مکالمہ ہوا۔ اس موقع پر محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ وہ ہوم گراؤنڈ پر میچ کھیلنے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹی ٹونٹی ٹیم میں واپسی "کم بیک" نہیں بلکہ وہ اسے اپنے کیریئر میں ایک بار پھر "ڈیبیو" کے مترادف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شمولیت کا معیار عمر نہیں بلکہ کارکردگی ہے اور وہ اسی بنیاد پر ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔

اس حوالے سے شعیب ملک نے کہا کہ وہ عمر کو صرف ایک ہندسہ سمجھتے ہیں اور اس تناظر میں ہونے والی تنقید سے فکر مند نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2 دہائیوں سے انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس دوران حاصل ہونے والا تجربہ نوجوان کھلاڑیوں تک پہنچانے کا یہ بہترین وقت ہے۔

اس موقع پر محمد حفیظ کی جانب سے کیے گئے سوال پر شعیب ملک کا کہنا تھا کہ وہ بطور مڈل آرڈر بیٹسمین عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش

کریں گے تاکہ بیٹنگ کے دوران کپتان بابر اعظم پر پریشر کم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم پاکستان ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میچ ونر کھلاڑی ہیں۔

شعیب ملک کے جواب کو سراہتے ہوئے محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ کرکٹ میں ٹاپ آرڈر بلے باز کی کارکردگی میچ میں اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محدود طرز کی کرکٹ میں ٹاپ آرڈر بیٹسمین پر پریشر کم ہو تو وہ بہتر انداز سے اننگز کو آگے بڑھا سکتا ہے۔

اس حوالے سے دونوں سینئر کھلاڑیوں نے اتفاق کیا ہے کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2020 میں پاکستان کی ٹیم متاثر کن کارکردگی دکھانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم نوجوان اور باصلاحیت کرکٹرز پر مشتمل ہے، بطور سینئر کھلاڑی وہ گراؤنڈ میں ذمہ داری نبھانے کے لیے سب سے آگے ہوں گے۔

پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ 24 جنوری بروز جمعہ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔

اسکواڈ:

بابر اعظم، کپتان (سنٹرل پنجاب)، احسان علی (سندھ)، عماد بٹ (بلوچستان)، حارث رؤف (ناردرن)، افتخار احمد (خیبر پختونخوا)، عماد وسیم (ناردرن)، خوشدل شاہ (خیبر پختونخوا)، محمد حفیظ (سدرن پنجاب)، محمد حسنین (سندھ)، محمد رضوان، وکٹ کیپر (خیبر پختونخوا)، موسیٰ خان (ناردرن)، شاہین شاہ آفریدی (ناردرن)، شعیب ملک (سدرن پنجاب) اور عثمان قادر (سنٹرل پنجاب)۔

شیڈول:

24 جنوری بروز جمعہ: پہلا ٹی ٹونٹی میچ بمقام لاہور
25 جنوری بروز ہفتہ: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام لاہور
27 جنوری بروز پیر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام لاہور
7 تا 11 فروری: پہلا ٹیسٹ میچ بمقام راولپنڈی
3 اپریل بروز جمعہ: واحد ایک روزہ میچ بمقام کراچی
5 تا 9 اپریل: دوسرا ٹیسٹ میچ بمقام کراچی

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk